

100 AYAT POST

VOLUME 4

100 آیات پوسٹس

جلد 4



أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ

تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے۔

That all power belongs to Allah alone,

(البقرة: 165)

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی

We hear and we obey

البقرة 285



فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ

تم معاف کرو اور در گزر کرو

So, forgive and overlook

البقرة: 109

میرا اللہ کافی ہے

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ③

اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں

اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا

And place your trust in Allah.
Allah is enough as a guardian.

الاحزاب 3



أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے
تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں

*I respond to the call
of one
when he prays to Me;*

البقرہ 186



رَبَّنَا فَارْحَمْنَا إِنَّ رَحْمَتَكَ رَحِيمَةٌ
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہ معاف فرما اور
ہماری کوتاہیاں ہم سے دور کر دے
اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما

Our Lord, forgive us, then, our sins, and
write off our evil deeds, and make us die
only when we have joined the righteous.



آل عمران 193

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

بے شک وہ بہت زیادہ توبہ

قبول کرنے والا ہے

Indeed, He is ever Accepting
of repentance.

(النصر 3)



جنتیوں کی باتیں

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وہاں ان کی صدا ہوگی کہ "پاک ہے تو اے اللہ"

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

اور وہاں ان کی آپس کی دعا ہوگی "سلامتی ہو"

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ "سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں

جو پروردگار ہے سب جہانوں کا"

سورۃ یونس 10




تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے۔
جو عزت و جلال والا ہے۔

Glorious is the name of your Lord, the
Lord of Majesty,
the Lord of Honour.

(الرحمن: 78)



سب کچھ ریکارڈ میں ہے

53 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَضَرٌّ

اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے

And every thing, small and big,
is written down.

القمر 53

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط

اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو

Pray to Allah for His grace.

النساء 32



رَبِّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى

اے پروردگار ! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا،
تو مجھے معاف فرمادے

O my Lord, I have wronged myself,
so forgive me.

(القصاص: 16)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ^ط

یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے

Remember, Allah alone deserves the exclusive submission.

الزمر 3



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے

والوں کو پسند فرماتا ہے



Surely Allah loves those who are most repenting, and loves those who keep themselves pure.

(البقرہ 222)

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو
جو علم نہیں رکھتے۔

And do not follow the desires
of those who do not know.

الجاثية: 18





فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾

بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے

Well, Allah is the best guardian and He is the Most-Merciful of all the merciful.

یوسف 64



فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫

پس حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بڑا عالی شان کبریائی والا ہے

So the judgment is only with Allah,
the Most High, the Most Great.

سورۃ مومن 12



قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ ﴿١٤﴾

کہو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں
اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔

Say, :It is
Allah whom
I worship,
making my
submission
exclusive to
Him.

الزمر: 14



وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ
يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ⑰

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیر لے گا
وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا

If one turns away from the
remembrance of his Lord, He will
thrust him into a severe torment.

وَسَنَجْزِي الشُّكْرِيْنَ

اور شکر کرنے والوں کو ہم
بھرپور جزا دیں گے

We shall soon
reward the
grateful.

(آل عمران 145)



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
31

یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔

Of course, the God-fearing will
have great achievement.

النَّبَأُ: 31


نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارک - بے حد بلند

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

ایمان والوں کے لیے یہ نبی ﷺ ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں
اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

The Prophet is closer to the believers
than their own selves
and his wives are their mothers.

الاحزاب 6





رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

My Lord, grant me [offspring] from among the righteous.

اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔

(الصافات-100)

إِن لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝۳۱

یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔

Of course, the God-fearing will have
great achievement,

النبأ: 31



رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو
اور ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔

Our Lord, forgive me and my parents and all believers
on the day when reckoning shall take place.

(ابراہیم 41)



بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔

**Instead, Allah is your Lord,
and He is the best of all helpers.**

(آل عمران: 150)



٦١ ٤٣ ٤٣ ٤٣
اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

یقیناً میرا رب قریب ہے اور

دعا کا قبول کرنے والا ہے

Surely, my Lord is near,
responsive to the prayers.

(سُورَةُ هُودٍ 61)





قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ط

آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ
ہی کی ہدایت ہے۔

Say: :Guidance of Allah is,
indeed, the guidance.


البقرة: 120

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

اے ہمارے رب! ہم سے عذاب دور کر دے
ہم ایمان لانے والے ہیں

O our Lord, remove from us the punishment;
we will truly believe.

الدخان 12



بَلِّغِ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا ط

حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تراختیار
اللہ کا ہے۔

In fact, every decision
rests only with Allah.

الرعد: 31

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Our Lord, Give us, from our spouses and our children, comfort of eyes, and make us heads of the God-fearing.



اے ہمارے رب! ہمیں اپنے ازواج اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں
کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے

فرقالت 74

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

(اے نبی ﷺ) آپ در گزر کرو، نیکی کا حکم دو
اور جاہلوں سے نہ الجھو۔

(O Prophet,) take forgiveness (as
your habit),
enjoin virtue, and ignore the
ignorant.


الاعراف: 199

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ⑧

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔
اُن کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔

Surely, for those who believe and do righteous deeds there are gardens of bliss.

(لقمان 08)




قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ ﴿١٤﴾

کہہ دیجئے ! کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی
کی عبادت کرتا ہوں۔

Say, :It is Allah whom I worship,
making my submission exclusive to Him.

(الزمر: 14)





رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

اے ہمارے رب! تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری کوتاہیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما

Our Lord, forgive us, then, our sins, and write off our evil deeds and make us die only when we have joined the righteous.

آل عمران 193





لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے
تاکہ تم پر رحم کیا جائے

Why do you not seek forgiveness from Allah,
so that you are treated with mercy?

(النمل 46)



رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ

فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَأَبِينَ عَفُورًا ۝ 25

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے
اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔

Your Lord knows best what is in your hearts. If you are righteous, then He is Most-Forgiving for those who turn to Him in repentance.

(الإسراء: 25)



إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾

حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے

Man is, indeed,
very ungrateful to his Lord,

العادیات 6

حَسْبِيَ اللَّهُ ^{صَدَّقَ} لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)

میرے لئے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

Enough for me is Allah. There is no god but
He. In Him I have placed my trust, and He
is the Lord of the Great Throne.

(التوبہ 129)





وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ ط

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہی سے
سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں،

But those who believe are
most firm in their love for Allah.

(البقرة: 165)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۙ

تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے
مغفرت کی دعا مانگو بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے

**Then pronounce the purity
and praise of your Lord, and
seek forgiveness from Him.
Surely He is Ever-Relenting.**

(النصر 3)



وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن

وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)

اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے

اور نہ کوئی مددگار

Other than Allah, you have
neither a patron, nor a helper.

البقرة: 107



رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَنَّا

وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور تیری
طرف رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے

O our Lord, in You alone we trust,
and to You alone we turn for help,
and to You is the final return

المستحسنة 04



وَذِكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَى

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ⑤⑤

اور نصیحت کرتے رہیے،
کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں
کو فائدہ دیتی ہے۔

And keep reminding,
because reminding
benefits the believers.

الذاریات: 55



مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

جس نے رسول کی اطاعت کی

اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی

Whoever obeys the Messenger
obeys Allah.

النساء 80

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے

Why do you not seek forgiveness from Allah, so that you are treated with mercy?

dreamstime.com
(النمل 46)



إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔

Surely, the mercy of Allah is
close to those who are good in
their deeds.

الاعراف: 56




رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

اے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور
ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما

Our Lord, bless us with mercy from Your own
and provide us with guidance in our matters.

الکہف 10



صارفین کے لیے بنیادی اسلامی ادب



آگے بھیجنے سے پہلے یہ آیت ضرور سوچ لیں:

وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے
اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔

They shall certainly bear their own loads, and
some other loads along with their own loads,

العنکبوت: 13

وَلِكُلِّ وَّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے
تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو

For everyone there is a
direction to which he turns his
face. Strive, then, to excel each
other in good deeds.

(البقرہ 148)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ - (118)

پروردگار! تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو تمام
رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے

My Lord, grant pardon and have mercy,
for you are the best of all the merciful.

المؤمنون 118

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

اے ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو
اور ایمان والوں کو، جس دن حساب قائم ہوگا۔

Our Lord, forgive me and my parents and all believers on
the day when reckoning shall take place.

(ابراہیم 41)

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں

Nor will Allah
punish them
while they seek
forgiveness.

(الانفال 33)



85 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

86 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ

اے ہمارے رب! تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے
اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما

Our Lord, do not make us a
victim of the unjust people, and
save us, through Your mercy,
from the disbelieving people.

(یونس 85-86)



جس کی تخلیق، اسی کی مرضی!

آلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا
سب اسی کا کام ہے۔

Unquestionably, His is the creation
and the command.

(الاعراف: 54)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا
وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ④٠

اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے
کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے

Surely, Allah does not wrong (anyone),
even to the measure of a particle. If it is a
good deed, He multiplies it, and gives a
great reward out of His Own pleasure.

النساء 40



إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْبِحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

Surely, Allah does not nullify the
reward of the virtuous.

التوبہ: 120



وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ^ط

اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا

And if you are
grateful, He will
like it for you.

(الزمر 7)

آئیں اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں

اللہ تعالیٰ کا فرما ہے

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا تو (اس کے باوجود) نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑگڑائے

We have already seized them with punishment, but they did not turn humble to their Lord, nor do they supplicate in humility.

المومنون 76




61 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

بیشک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

**Surely, my Lord is near, responsive
to the prayers.**

(ہود: 61)



رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②

وہ وقت آئے گا جب یہ کافر تمنا کریں
گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے!

Soon will the time come when
the unbelievers will wish they
were Muslims.

(الحجر 2)



اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٣

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں

Allah is such that there is no god but He.
And in Allah alone the believers must
place their trust.

التغابن 13



وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیے

And proclaim (well) the bounties of your Lord.

(رضی ۱۱)




قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ

یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس (نفس)
کو پاک کر لیا۔

Success is really attained by him
who purifies it,

الشہس: 9



آلَا يَذُكُرِ اللَّهُ
تَطْبِئِنَّ الْقُلُوبُ ۝ (28)

یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی
دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے

Listen, the hearts
find peace only in
the remembrance of
Allah.

(الرعد 28)

قُلْ لِلّٰہِ مَنِیْنَ یَعُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِہِمُ

وِیَحْفَظُوْا فُرُوْجَہُمْ ذٰلِکَ اَزٰی لَہُمْ ط

اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌۢ بِمَا یَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان
کے لیے پاکیزہ ہے۔ بیشک اللہ باخبر ہے اس
سے جو وہ کرتے ہیں۔



النور: 30

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ

اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا

جس کی ہم میں طاقت نہ ہو

Our Lord, do not make us bear a burden
for which we have no strength.

(البقرہ 286)



وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔

And pronounce the name of Allah
morning and evening.

سورة الدهر: 25

ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہا کریں

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ

وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے
حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں

And thy Lord is not one to destroy
cities wrongously while the
inhabitants thereof are rectifiers.

ہود 117

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا
رنگ کس کا ہوگا۔

(We dye ourselves with) the colouring
of Allah! For who is better in colouring
than Allah?

البقرة: 138

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی

By the manifest Book

الدخان 2





إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں
توان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔

Surely, for those who have awe of their Lord without seeing (Him) , there is forgiveness and a big reward.

الملك: 12



قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)

کہہ دیجئے "جو کچھ اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے اس کے
سوا ہم پر کوئی مصیبت نہیں پڑے گی وہی ہمارا کارساز ہے
اور اللہ ہی پر ایمانداروں کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے"

Say, Nothing can ever reach us except what Allah
has destined for us. He is our Master. And in Allah
alone the believers must place their trust.

التوبہ 51



وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ^ط

اور مجھے جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

My ability to do any thing comes
from none but Allah.



صود: 88

لوگوں کے شر و فساد سے بچنے کی دُعا

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْبُفْسِدِينَ ③٠

اے میرے رب فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما

My Lord, help me against the people
who make mischief.

العنكبوت 30



ط
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے۔

And to Allah belong the most
exalted attributes.

النحل: 60



غَافِرِ الذُّبِّ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ
ذِي الطَّوْلِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝۳

گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا سخت عذاب والا
انعام و قدرت والا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے

The One who forgives sins and accepts repentance, the One who is severe in punishment, the One who is the source of all power. There is no god but He. To Him is the ultimate return (of all).

(غافر 3)



اور یاد رہے کہ۔۔۔

کچھ مجرموں کی ایف آئی آر (FIR)
آسمانوں پر لکھی جاتی ہے۔۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

And your Lord is not the One who forgets.


(مریم: 64)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے
معفرت کی دعا مانگو بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے

Then pronounce the purity
and praise of your Lord, and
seek forgiveness from Him.
Surely He is Ever-Relenting.

(النصر 3)



قیامت کے دن

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝۱۰

اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔

And all that is contained in the
hearts will be exposed.

العاديات: 10

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو
میں تمہاری دعا قبول کروں گا

Your Lord has said, Call Me, I will
respond to you.

غافر 60

87 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا
اور کون ہوگا؟

Who is more truthful in his
word than Allah?

(النساء 87)



إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

بیشک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

Surely, my Lord is near,
responsive to the prayers.

هود: 61

إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

بلاشبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے

My Lord has always been kind to me.

(مریم 47)





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو،
اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔

O you who believe! Remember Allah with much remembrance.

الاحزاب 41

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے
اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں

And who could be better of
speech than the one who
called to Allah and did right
and said "I am a Muslim."

حُم السجدة 33



فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيْدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار
ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو

So, pure (from every fault) is the One in whose
hand is the dominion of all things. And towards
Him you are to be returned.

(یس 83)



يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں
کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت آگئی ہے

O men, there has come to you an advice from your Lord,
and a cure for the ailments of your hearts, and guidance and
mercy for the believers.

یونس 57



فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ
وَلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ
مُسْلِمًا وَّالْحَقِيْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

(اے) آسمانوں اور زمین کے بنانے والے،
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔
مجھے فرماں برواری کی حالت میں وفات دے
اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔

(یوسف: 101)

ع
74 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

سواپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے

So, proclaim purity of the name of your
Lord, the Magnificent.

الواقعه 74



رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ

اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا

جس کی ہم میں طاقت نہ ہو

Our Lord, do not make us bear a burden
for which we have no strength.

(البقرہ 286)




وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

اور ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں۔
بیشک کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے
سوال کیا جائے گا۔

And do not follow a thing about which you have no knowledge. Surely, the ear, the eye and the heart - each one of them shall be interrogated about.

الإسراء: 36



وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

نیکی اور بدی برابر نہیں ہے تم برائی کا دفاع بہترین نیکی کے ساتھ کرو۔ دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑ چکی ہے وہ دلی دوست بن جائے گا

Good and evil are not equal. Repel (evil) with what is best, and you will see that the one you had mutual enmity with him will turn as if he were a close friend.

(فصلت 34)



فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس کی
توبہ قبول کرے گا بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے

Whoever repents after his
transgression and corrects
himself, then Allah shall relent
towards him. Surely, Allah is
Most-Forgiving, Very-Merciful.



فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے
اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں

So, when you recite the Qur'an, seek refuge
with Allah against Satan, the accursed.

(النحل 198)



سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①

آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے
اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے

Allah's purity has been proclaimed by all that is in the heavens and all that is in the earth. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

الحشر 01

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

BE UNITED

“And hold fast, all of you together, to the **Rope of Allâh**, and be not divided among yourselves...”

[Al-Qur'ân - 3:103]

اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی


سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

اس كتاب میں کوئی شک نہیں یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے

This is the Glorious Book in which there is no chance of doubt (It is) a guide for those who guard against evil and fear Allah.

البقرہ 02



إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں

I do not complain of my anguish
and sorrow to anyone but Allah

(یوسف 86)

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

(اے نبی!) میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں
یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں

Tell My servants that I am the
Most-Forgiving, the Very-Merciful

(الحجر 49)

